

دُعوتِ اِلی اللہ!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کلمے کے دو حصے ہیں

کلمے کا پہلا حصہ: لَا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ معنی: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ ہر عبادتِ صلوٰۃ و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، رکوع و سجود، دعا و پکار، روزہ و طواف ہر عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے محتاجِ کُل حاضر و ناظر، عالم الغائب و الشہادۃ خالق کائنات، مالک کائنات، حاکم کائنات، شریعت ساز اور ہر قسم کے نفع و نقصان دینا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے عزت و ذلت، غریت و دولت، بیماری و صحت و فتح و شکست دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کائنات کے ذرہ ذرہ پر حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے نظام کائنات میں کوئی ذخیل نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مشیر و شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے مثل و ہمماثل ہے ہر چیز کی فریاد صرف وہی سنتا ہے اور ہر مراد صرف وہی پوری کرتا ہے ہر مشکل صرف وہی حل کرتا ہے کائنات کی ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کوئی چیز بھی کسی غیر نے پیدا نہیں کی۔ انسان کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کوئی بال بھی کسی غیر نے نہیں بنایا انسان کو اور ہر چیز کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کوئی ایک نعمت بھی کسی غیر نے نہیں دی۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہر مصیبت و ہر تکلیف بھی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی ایک مصیبت بھی کوئی غیر نہیں دے سکتا ہر مصیبت و ہر تکلیف بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے کوئی ایک مصیبت بھی کوئی غیر دور نہیں کر سکتا پھر معلوم نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کیوں باغی و نافرمان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک بناتا ہے۔

کلمے کا دوسرا حصہ: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ معنی: محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین، افضل البشر اور معصوم الخطاء ہیں ساری انسانیت کے صرف وہی رہبر و رہنما و قائد اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و سنت قیامت تک واجب العمل اور قابل اتباع ہے اور ہر بدعت قابل رد و قابل نفرت ہے۔ ایمان و سنت کی وہی صورت معتبر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان و قول و عمل سے ثابت ہوگی خلاف قرآن و سنت ہر رسم و رواج، ہر جلسہ و ہر جلوس، ہر تہوار و شادی و فوتگی، ہر اجتماع و ہر فنکشن، ہر نظام طائفہ و یوم قابل رد و قابل نفرت ہوں گے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم نے مان لیا کہ ہر عبادت بدن کی مال کی اور زبان و دل کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے اور اپنا رسول صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے اور ہر کام میں تابعداری اللہ تعالیٰ کی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔

آؤ اب ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قرآن و حدیث صحیحہ سے معلوم کرتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَ لَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اُس کا شریک نہیں بناتا۔ (جن.... 20)

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے حق میں نفع و نقصان دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ (جن.... 21)

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ اللہ تعالیٰ کے (عذاب سے) مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں (اے محمد صلی

اللہ علیہ وسلم) اُس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔ (جن.... 23)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ (اعراف.... 188)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ج وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ اے انسانو! اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو تو (سن رکھو) کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ (یونس.... 104)

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ج إِنْ اتَّبِعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ط أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور (نہ میں یہ کہتا ہوں) کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نوری فرشتہ ہوں میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو صرف اُس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) آتا ہے فرمادو! کہ بھلا اندھے اور آنکھ والے برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے۔ (الانعام.... 50)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری طرح کا بشر ہوں (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے۔ یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے۔ (الکہف... 110)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝ ترجمہ: ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ (العمران... 185)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ (القصص... 88)

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ ان کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس (اللہ) نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ (اللہ) سب قسم پیدا کرنا جانتا ہے۔ (یسین... 78, 79)

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم ان کو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔ (فاطر... 22)

فَأَنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھے پھیر کر چلے جا رہے ہوں۔ (روم... 52)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۝ ترجمہ: انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے۔ (فاطر... 14)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ترجمہ: جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر تم سچے ہو تو چاہئے کہ وہ تم کو جواب دیں۔ (اعراف... 194)

قُلْ اتَّبِعُونِ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ کیا عبادت کرتے ہو تم من دون اللہ کی جو نہیں رکھتے کچھ بھی اختیار تمہارے نقصان اور نفع کا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ (مائدہ... 76)

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ ۝ ترجمہ: اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا۔ (طہ... 69)

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِيبُ لِيْ ج فَلَا تَلُوْا مَوٰنِيْ وَلَوْ مَوٰا اَنْفُسِكُمْ ط

ترجمہ: میرا (شیطان، جن کا) تم پر کوئی زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو (گمراہی کی طرف) بلا یا تو تم میری دعوت کو قبول کر لیا تو

تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ (ابراہیم.... 22)

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ط

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے دین کو (شرک سے) خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی

عبادت کرتا ہوں پس تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ (زمر.... 14, 15)

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ

ترجمہ: اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو جھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ (فاطر.... 13)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ

ترجمہ: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادو! کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنے پالنے والے کو پکارتا ہوں اور کسی کو بھی اللہ کا

شریک نہیں بناتا۔ (جن.... 20)

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ

ترجمہ: اور نہ پکارو! اللہ کے سوا ان کو جو نفع نہ دے سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان پس اگر تمہیں تم نے ایسا کیا (من دون اللہ کو

پکارا) تو یقیناً ہو جاؤ گے تم اسی صورت میں ظالموں میں سے۔ (یونس.... 106)

وَأَنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ

ترجمہ: اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ تم کو خیر دینے کا ارادہ

کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بہت

بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ (یونس.... 107)

مَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ . ترجمہ: جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ (نسائی)

اور فرمایا مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةَ فَقَدْ أَشْرَكَ ترجمہ: جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ (مسند احمد)

آخر میں یہ ہماری پکار ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو شرک و کفر کو مٹانے اور سچے ایمان کو پھیلانے

کے لئے ہمارا ساتھ دے..... کہاں ہیں وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی

اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلیں اور باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لئے ہمارے ہمسفر بنیں؟

ہماری مسجد تو حید میں خطاب جمعہ ساڑھے بارہ بجے شروع ہوتا ہے۔

ہمارا لٹریچر مفت منگوانے کے پتہ :

جامع مسجد تو حید مرکز تنظیم المسلمین نزد خواجہ فرید ہسپتال وہاڑی روڈ ملتان۔ موبائل نمبر 0345-7270151